





درج ذیل آیات تلاوت کر کے دم کرنے سے بھی جادو کا اثر ان شاء اللہ ختم ہو جاتا ہے :

آیۃ الکرسی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 106-122، سورہ یونس کی آیت 79-82، سورہ طہ کی آیت 65-69، سورہ کافرون، سورہ اخلاص (تین مرتبہ)، سورہ الناس (تین مرتبہ)، سورہ الطلق (تین مرتبہ)۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعائیں پڑھ کر دم کیا جائے :

(أَذِيبَ النَّاسَ رَبَّ النَّاسِ، أَشْفَى وَأَنْتَ الشَّافِي، لِأَشْفَاءِ الْأَشْفَاءِ وَكَأَنَّكَ شِفَاءٌ لَا يُنَادِرُ سَقْمًا) (صحیح البخاری، المرضی: 5675، صحیح مسلم، السلام: 2191)

(بِاسْمِ اللَّهِ أَزِيكِيك، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَزِيكِيك) (صحیح مسلم، السلام: 2186)

اذکار کی پابندی کریں، خاص طور پر درج ذیل اذکار پابندی کے ساتھ کریں :

نماز کے بعد کے اذکار، ہر نماز کے بعد آیۃ الکرسی۔

صبح و شام کے اذکار۔

لیٹرین جانے اور نکلنے کی دعا۔

رات کو سوتے وقت آیۃ الکرسی پڑھنا۔

ہر فرض نماز کے بعد ان یہ تین سورتیں پڑھنا: (قل ہو اللہ احد، قل أعوذ برب الفلق اور قل أعوذ برب الناس)

رات کو سورہ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھنا۔

اگر کسی جگہ پڑاؤ کریں تو یہ دعا پڑھیں (أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ) (صحیح مسلم، الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار: 2708) اس دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا ہے: کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پڑاؤ کرے اور یہ دعا پڑھے تو جب تک وہ اس جگہ سے کوچ نہیں کر جائے گا اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔

واللہ اعلم بالصواب

محدث فتویٰ کمیٹی

01. فضیلۃ الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حفظہ اللہ